



حاضری اور وقت کی پابندی کے توقعات

والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول میں اچھا کریں۔ ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بچے اسکول پابندی سے جاتے ہیں ان کو تعلیماتی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جان فراسٹ اسکول میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین حاضری ۹۸ فیصد سے اوپر ہونی چاہئے، لیکن ہماری توقع طالب علموں سے کم سے کم ہمیشہ ۹۵ فیصد حاضری کی ہے۔ ہر ہاف ٹرم کے اختتام پر اسکول ہر طالب علم کوان کی حاضری کا بیان جاری کرے گی تا کہ ہر طالب علم کی حاضری کے رکارڈ کی اطلاع والدین کو ہو سکے اور والدین اپنے بچوں کی حاضری کی تشخیص کریں بمقابلہ اسکول کے دیے ہوئے ہدف کے ساتھ۔

وقت کی پابندی

وقت کی پابندی ایک بہت اہم معیار ہے۔ طالب علموں سے توقع ہے کہ وہ اسکول میں صبح ۸:۴۰ بجے پر حاضر ہوں اور ریجسٹریشن کے لئے تیار ہوں۔ اگر طالب علم ۸:۴۵ بجے کے بعد پہنچتے ہیں تو ان کے فارم ٹیوٹر کی طرف سے ان کو دیری سے آنے کا نشان دیا جائے گا۔ اگر طالب علم ریجسٹریشن ختم ہونے کے بعد ۰۹:۰۰ بجے حاضر ہوتا ہے تو ان سے توقع ہے کہ وہ مرکزی استقبالیہ (مین ریسپشن) میں ریجسٹریشن افسر کے ساتھ دستخط کرے۔ وہ طالب علم جو ریجسٹریشن ختم ہونے کے بعد ۹:۱۰ بجے حاضر ہونگے ان کے صبح کے سیشن میں غیرمجازی غیرحاضری لگادی جائے گی۔ یہ درجہ بندی طالب علموں کی تمامی حاضری کی فیصدی پر منفی اثرات دال سکتی ہے۔

غیرحاضری کے ساتھ نمٹنا

ایک اسکول کی حیثیت سے ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے سارے طالب علموں کی حاضری مثالی طور پر ۱۰۰ فیصد ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ممکن نہیں لہذا، اگر طالب علم کو اسکول سے غیرحاضر ہونا پڑے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ والدین یا طالب علم کا رکھوالا اسکول کے **حاضری کے افسر سے اس نمبر پر رابطہ کرے 01633 654111**۔ یہ ایک ۲۴ گھنٹے کی سروس ہے، مہربانی کے ساتھ ایک پیغام چھوڑیں جس میں آپ طالب علم کا سال، گروپ، غیرحاضری کی وجہ اور مدت کو بیان کریں۔ آپ ایک غیرحاضری کا نوٹ بھی پُر کر سکتے ہیں۔ یہ نوٹ آپ اسٹوڈنٹ پلینر کے پیچھے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ غیرحاضری کے وجوہات فراہم کرنے میں ناکامیاب ہوتے ہیں تو اسکول آپ سے رابطہ کریگا اور ہر غیرحاضری درخواست کرے گا۔ ہمارے اسکول کی پالیسی ٹرم کے دوران چھٹیوں کی اجازت دینا نہیں ہے تاہم اگر آپ آگاہ ہیں کہ کسی صورت حال کے نتیجے میں آپ کا بچہ اسکول سے غیرحاضر ہوتا ہے تو اسکول کے حاضری کا افسر چھٹی کی درخواست فراہم کر سکتا ہے۔ اجازت دینے کا اختیار ہیڈٹچر کے پاس ہے۔

میڈیکل اپائنٹمنٹس

ہم سب والدین کو مشورہ دیتے ہیں کہ کوشش کریں اور اسکول کے دنوں کے دوران میڈیکل اپائنٹمنٹس رکھنے سے گریز کریں چونکہ یہ طالب علم کی حاضری پر منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ جہاں یہ ممکن نہ ہو تو ہم والدین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ میڈیکل اپائنٹمنٹ کا ثبوت پہلے سے ہی اسکول کے حاضری کے افسر کو جمع کرادیں۔ ہم یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ والدین طالب علم کی اسکول میں حاضری کو مدنظر رکھتے ہوئے اپائنٹمنٹ رکھے تاکہ طالب علم سے کم ایک ریجسٹریشن پیریڈ میں اسکول میں حاضر ہوسکے۔

سپورٹ برائے حاضری

ہم اپنے طلباء کے تعلیمی اور ذاتی کامیابی کی ایک اعلیٰ سطح حاصل کرنے کے لئے ممکن بہترین مواقع فراہم کرنے کی تمام حمایت کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کی حاضری اسکول کی ہدفی حاضری یعنی ۹۵ فیصد سے نیچے گرتی ہے تو آپ سے پروگریس کورڈینیٹر ، فیملی انگیجمنٹ یا لوکل اجوکیشن ویلفیئر افسر آپ سے رابطہ کرے گا۔